



مکالمہ نگاری

مکالمہ دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کی باہمی بات چیت کو کہتے ہیں۔ اس بات چیت یا گفت گو کے کئی پہلو ہوتے ہیں۔ اسی گفت گو سے ہم ایک دوسرے تک اپنے دل کی بات پہنچاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیالات سے آگاہ ہوتے ہیں۔

مکالمہ زبانی بھی ہوتا ہے اور تحریری بھی۔ اسی سے ایک دوسرے کے جوہر و کردار کا پتا چلتا ہے اور کسی کردار کی شخصیت کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہی مکالمہ 'ڈرامے' ناول اور افسانے کی جان ہیں۔ انھی کی کامیابی سے ناول، افسانہ اور فلم وغیرہ کی کامیابی کی شہرت پھیلتی ہے اور ان ہی سے ہم ایک دوسرے کی قدر و قیمت کا اندازہ کرتے ہیں۔

مکالمہ ایک فطری بات چیت بھی ہے اور مصنوعی گفت گو بھی۔ بہر حال مصنوعی مکالمے میں بھی فطرت کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ روزمرہ بول چال اور لب و لہجہ کے ساتھ اشارات ایک اچھے مکالمے کی جان ہیں۔ الجھاؤ اور تکلفانہ گفت گو مکالمے کو بے مزہ کر دیتی ہے۔ خیال رکھنا چاہیے کہ گفت گو شرافت و تہذیب کے دائرے سے باہر قدم نہ رکھے۔ مخاطب کے مرتبے اور درجے کا خیال رکھا جائے۔ ضرورت کے مطابق اشارات کے ساتھ آواز کی نرمی، سختی، اتار چڑھاؤ بھی زیر نظر رہنا چاہیے۔

گفت گو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ بات سے بات خود بخود نکلتی آئے۔ ایک ہی بات بار بار دہرانے سے بھی گفت گو میں پھیکا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ زبان کا روزمرہ کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ زبان جس قدر روزمرہ کے مطابق ہوگی، اتنی ہی مؤثر ہوگی۔ اب ہم چند مکالمے بطور نمونہ درج کرتے ہیں:

۱ مریض اور ڈاکٹر

- مریض : ڈاکٹر صاحب! السلام علیکم!
- ڈاکٹر : علیکم السلام! تشریف رکھیے۔
- مریض : تشریف رکھنا ہی تو مشکل ہے۔
- ڈاکٹر : کیوں بھی ایسی کیا تکلیف ہوگئی ہے؟
- مریض : تکلیف ہی تکلیف ہے۔ رات بھر پریشان رہا ہوں گھڑی بھر سو نہیں سکا۔
- ڈاکٹر : تکلیف تو بھی تکلیف ہی ہے۔ صحت ٹھیک نہ ہو تو چین نہیں آتا۔
- مریض : کچھ دوا بھی دیجیے مراجارہا ہوں۔
- ڈاکٹر : بیماری بتاؤ تو دوا دوں۔



- مریض : ڈاکٹر صاحب! پیٹ میں سخت درد ہے۔ بیٹھے چین آتا ہے نہ لیٹ۔
- ڈاکٹر : یہ درد کب سے ہے؟
- مریض : آج رات سے۔
- ڈاکٹر : رات کیا کھایا تھا؟
- مریض : روٹی کا ایک ٹکڑا۔
- ڈاکٹر : کیا آپ نے پہلے کبھی روٹی نہیں کھائی؟ رات کی روٹی میں کیا خاص بات تھی؟
- مریض : رات کی روٹی میں خاص بات یہ تھی کہ وہ جلی ہوئی تھی۔
- ڈاکٹر : ارے! تم جلی ہوئی روٹی کھا گئے؟
- مریض : صرف ایک ٹکڑا کھایا تھا۔
- ڈاکٹر : اوہو! کیا آپ کی نظر کمزور ہے؟ لیٹ جاؤ تمھاری آنکھوں میں دوا ڈالتا ہوں۔
- مریض : نظر ٹھیک ہے۔ پیٹ میں کچھ ڈالیں تاکہ درد سے جان بچے۔
- ڈاکٹر : وعدہ کرو کہ آئندہ جلی ہوئی روٹی نہیں کھاؤ گے۔
- مریض : سو بار وعدہ کرتا ہوں۔ ہائے میرا پیٹ!
- (ڈاکٹر مریض کو گولی کھلاتا ہے)
- مریض : ڈاکٹر صاحب! شکریہ۔ درد کم ہو رہا ہے۔ میں جاتا ہوں۔
- ڈاکٹر : ارے میاں! دوا کی قیمت تو دیتے جاؤ۔
- مریض : دوا کی قیمت درد سے آرام ہی تو ہے۔
- ڈاکٹر : دوا کی قیمت دام بھی ہیں، جن سے دوائیں خریدی جاتی ہیں۔
- مریض : (دوا کی قیمت ادا کر کے) السلام علیکم!
- ڈاکٹر : وعلیکم السلام! روٹی کھانے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ جلی ہوئی تو نہیں۔
- (مریض شکریہ ادا کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔)

دکان دار ۲ دکان دار اور خریدار

- خریدار : السلام علیکم!
- دکان دار : وعلیکم السلام! آئیے تشریف لائیے۔
- خریدار : آپ کی دکان میں رومال بھی ہوں گے؟



- دکان دار : رومال ہی نہیں جرابیں بنائیں چھتریاں سبھی کچھ ہے۔
- خریدار : رومال دکھائیے۔ کوئی سستا سا سوتی ہو۔
- دکان دار : یہ دیکھیے رومال نہایت نفیس اور نرم۔
- خریدار : آپ نے جرابوں کا ذکر کیا تھا۔ وہ بھی دکھائیے۔
- دکان دار : رومال کے متعلق کیا فیصلہ ہے۔ کتنے پیش کروں؟
- خریدار : جرابیں دکھائیے تو رومال کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔
- دکان دار : یہ دیکھیے جرابیں ریشمی ہیں ریشمی۔ کتنے جوڑے پیش کروں؟
- خریدار : آپ مال دکھا رہے ہیں قیمت نہیں بتاتے۔ کیا آپ اپنی چیزیں بن داموں بیچتے ہیں؟
- دکان دار : ہاں صاحب! بالکل مفت۔ قیمت برائے نام ہے۔ رومال سو روپے کا ہے اور جرابوں کا جوڑا دو سو بیس روپے کا۔
- خریدار : میاں دکاندار! یہ قیمت تو بہت زیادہ ہے۔ ویسے رومال بھی نفیس ہے اور جرابیں بھی۔
- دکان دار : ہم اپنے مال کو چند بیسوں کے نفع پر بیچتے ہیں۔ کسی اور دکان سے دریافت کر لیں۔ پھر آپ کی تسلی ہو جائے گی۔
- خریدار : رومال اور جرابوں کی صحیح صحیح قیمت بتائیے۔ میں کچھ اور چیزیں بھی خریدوں گا۔
- دکان دار : صاحب! ہماری دکان کا حساب ”بابا“ جیسا سمجھیے۔ ایک زبان ایک دام۔
- خریدار : اگر آپ سچ سچ درست کہتے ہیں تو مجھے آپ کی سچائی پر فخر ہے۔ اب میں سچی دکان چھوڑ کر جھوٹی دکانوں پر نہیں جاؤں گا۔
- دکان دار : پھر حکم کیجیے۔ آپ کی قدر دانی کا شکریہ!
- خریدار : پانچ رومال پانچ جوڑے جراب اور ایک چھتری بھی ڈال دیجیے مگر اچھی سی ہو۔
- دکان دار : یہ لیجیے۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔
- خریدار : رقم تو آپ نے نہ بتائی نہ وصول کی۔ شکریہ مُفت میں دے مارا۔
- دکان دار : یہ لیجیے بل! کل اٹھارہ سو روپے ہی تو ہوئے۔
- خریدار : یہ لیجیے دو ہزار روپے۔ اپنی رقم وصول کیجیے اور بتایا دیجیے۔
- دکان دار : یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اچھا آپ کی خوشی کے لیے یہ لیجیے دو سو روپے۔

۳ دو ہم جماعت

- علی رضا : شہر یار میاں! کہاں جا رہے ہو؟
- شہر یار : آخا۔ آپ ہیں! السلام علیکم!
- علی رضا : یہ کیا کہ سر پیر کا ہوش نہیں اور بازار کو بھاگے جا رہے ہو۔
- شہر یار : بھائی صاحب! سلام کا جواب تو دیا ہوتا۔



- علی رضا : وعلیکم السلام! سچ مانو تمہیں دیکھ کر سلام کا جواب تک یاد نہ رہا۔
- شہریار : اور اب بھی بے خودی میں بھاگ رہے ہو؟
- علی رضا : نہیں تو۔ بے خودی کی کیا بات ہے! انگریزی کتاب کا ترجمہ خریدنے جا رہا ہوں۔ انگریزی کمزور ہے نامیری۔
- شہریار : انگریزی ایسا مضمون نہیں جس کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت ہو۔
- علی رضا : کیا مطلب؟
- شہریار : مطلب یہ ہے کہ میں مدد کے لیے حاضر ہوں۔
- علی رضا : شکریہ دوست! یہ تو بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟
- شہریار : جا کہاں رہا ہوں۔ یہی حساب کا خلاصہ خریدنے کا ارادہ ہے۔
- علی رضا : حساب میں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔
- شہریار : شکریہ! مگر یہ دونوں مضمون تیار کیسے ہوں گے اور ہم ایک دوسرے کی مدد کیوں کر کریں گے؟
- علی رضا : ہمارے گھر میں آجایا کریں اور حساب کی مشق کر لیا کریں۔
- شہریار : ٹھیک ہے۔ آئندہ ہم دونوں مل کر سکول کا کام کیا کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد سے اپنی کمی پوری کر لیا کریں گے۔

۴ درزی خانے میں

(حمزہ خالد اور حبیب خالد دونوں بھائی درزی خانے میں داخل ہوتے ہیں)

- حمزہ خالد : وعلیکم السلام!
- درزی : وعلیکم السلام! کہیے کیسے آنا ہوا؟ کہیں بھول تو نہیں پڑے؟
- حمزہ خالد : آپ کی طبیعت کیسی ہے ماسٹر جی!
- درزی : شکریہ۔
- حمزہ خالد : ماسٹر جی! یہ کپڑا لیجیے۔ میرا سوٹ تیار کر دیجیے۔ حمزہ کے لیے دو شلواریں اور ایک قمیص تیار کیجیے۔
- درزی : کس حساب سے خریدا ہے یہ کپڑا؟
- حمزہ خالد : دو سو روپے فی میٹر۔
- درزی : میری قمیص کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوگا؟
- حمزہ خالد : ڈھائی میٹر۔ یہ کپڑا تین میٹر ہے۔ آدھ میٹر کی واسکٹ بنا دیجیے۔
- درزی : جوار شاد ہو مگر زمانے کے لیے فیشن کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے نا!
- حمزہ خالد : ہمارے کپڑے کب تک تیار ہو جائیں گے؟
- درزی : صرف پندرہ دن تک۔ آج پیر ہے اگلا پیر چھوڑ کر آئندہ پیر کو آئیے ان شاء اللہ آپ کے کپڑے تیار ہوں گے۔
- حمزہ خالد : ماسٹر جی! پیروں کے پھیر میں نہ رکھیے گا۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں۔



درزی : فکر نہ کریں۔ ہمیں اپنے وقت کی بھی قدر ہے۔ کام آ رہا ہے اور ختم ہونے میں نہیں آتا۔ سچی بات بھی کہتے ہیں اور لوگوں کو وعدوں پر بھی ٹر خاتے ہیں۔

حسیب خالد: مگر ہمیں نہ ٹر خانہ اور نہ ہماری دوستی بھی ٹر خ جائے گی۔

درزی : نہیں یہ صرف باتیں ہی ہیں۔ بھلا نرا وعدوں سے کام چلتا ہے کہیں!

حمزہ خالد : شکریہ ماسٹر صاحب!

درزی : دونوں نوجوانوں کی آمد کا شکریہ!

۵ تاریخ پاکستان

(کلاس میں لڑکے شور مچا رہے ہیں۔ استاد صاحب کے آتے ہی خاموشی چھا جاتی ہے)

استاد : انس! بتائیے پاکستان کب وجود میں آیا تھا؟

انس : پاکستان ۱۴۔ اگست ۱۹۴۷ء کو وجود میں آیا تھا۔

استاد : سب سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں اسلامی سلطنت کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟

انس : محمد بن قاسم نے برصغیر میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی اور بعد میں آنے والے فاتحین کے لیے سلطنت محمود غزنوی اور محمد غوری نے راستہ ہموار کیا تھا۔

استاد : شاہاب! محمد بن قاسم نے کس سن میں ہندوستان پر حملہ کیا تھا؟

صابر : ۷۱۲ء تھا جب کہ اس نوجوان فاتح نے راجا دہر کو شکست دے کر سندھ میں اسلامی حکومت قائم کی۔

استاد : سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے اور اسلامی حکومت کو کس قدر وسعت دی؟

امیر الحسن : سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر سترہ حملے کیے اور پنجاب و سندھ کو اسلامی حکومت میں شامل کیا۔

استاد : سلطان محمد غوری نے دہلی کو فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی حدود کو وسعت دی۔ اب بتائیے کہ مستقل اسلامی سلطنت کا بانی کون تھا؟

عبداللہ : ہندوستان میں مستقل اسلامی حکومت کا بانی سلطان قطب الدین ایبک تھا۔ اس کے بعد خلجی، تغلق، لودھی خاندان حکمران رہے۔

استاد : مغلیہ خاندان کا بانی کون تھا اور اس دور کے مشہور حکمرانوں کے نام بتائیے؟

محمود الحسن : مغلیہ خاندان کے بانی کا نام ظہیر الدین بابر تھا۔ اس خاندان کے مشہور بادشاہ نصیر الدین ہمایوں، جلال الدین اکبر،

نور الدین جہانگیر، شہاب الدین شاہجہان، اور نگزیب عالم گیر، بہادر شاہ ظفر ہیں۔

استاد : ہندوستان پر ہزار سالہ اسلامی حکومت کا خاتمہ کس بادشاہ پر ہوا؟

مقصود احمد : ہندوستان میں مسلمانوں کی ہزار سالہ حکومت بہادر شاہ ظفر پر ختم ہوئی اور انگریز ہندوستان کے حاکم ہو گئے۔

استاد : پاکستان کس طرح قیام پذیر ہوا؟

طاہر شہزاد : برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی حالت نہایت ابتر ہو گئی تھی۔ انگریز اور ہندو دونوں مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے

تھے۔ علامہ اقبالؒ نے قوم کو جھنجھوڑا اور پاکستان کا نظریہ پیش کیا۔ جسے قائد اعظم محمد علی جناحؒ کی شبانہ روز محنت اور جدوجہد



نے انگریز اور ہندو کو شکست دے کر قائل کر لیا کہ پاک و ہند کے وہ علاقے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے پاکستان کے نام سے آزاد و آباد رہیں۔ چنانچہ ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا اور قائد اعظمؒ پاکستان کے پہلے حاکم مقرر ہوئے۔

۶ ہوٹل میں

(مسٹر ستارا نجم اپنے بیٹے نعمان کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہوتے ہیں۔)

- ستارا نجم : السلام علیکم!
- منیجر : ولیکم السلام! خوش آمدید! کیا حکم ہے؟
- ستارا نجم : مجھے دو بستر کا کمرہ چاہیے۔
- منیجر : آج کل مہمانوں کی آمد زیادہ ہے۔ تیسری منزل پر صرف ایک کمرہ خالی ہے۔
- ستارا نجم : منیجر صاحب! کمرہ صاف ستھرا اور ہوادار ہونا چاہیے۔
- منیجر : ہمارے ہوٹل کا ہر کمرہ نہایت صاف ستھرا ہے۔ آپ اوپر جا کر دیکھ لیں۔
- ستارا نجم : مجھے آپ کی باتوں پر اعتماد ہے۔
- منیجر : آپ کتنے دن تک ٹھہریں گے؟
- ستارا نجم : صرف دو دن تک۔ ہم مری جا رہے ہیں واپسی پر پھر دو دن ٹھہریں گے۔
- منیجر : ۳۱۰ نمبر کمرے کی چابی لیجیے! امید ہے کہ ہماری خدمت سے خوش ہوں گے۔
- ستارا نجم : شکریہ!
- منیجر : کیا تناول فرمائیں گے آپ؟
- ستارا نجم : نعمان بیٹے! آپ کیا کھائیں گے؟ (کھانوں کی فہرست دیکھتا ہے)
- نعمان : دہی پلاؤ اور شامی کباب۔
- ستارا نجم : ویٹر! میرے لیے بھنا ہوا مرغ اور بچے کے لیے ایک پلیٹ پلاؤ، ایک پلیٹ شامی کباب، دہی اور سلا دلاؤ۔
- (ویٹر سب کچھ حاضر کرتا ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر)
- ستارا نجم : ویٹر! بل لاؤ۔
- ویٹر : یہ لیجیے جناب!
- ستارا نجم : ایک ہزار پچیس روپے ہوئے سب! یہ لو بل
- ویٹر : شکریہ جناب!

